



## سوال

زیادت ثقہ اور شاذ میں فرق

## جواب

سوال: اسلامِ عظیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ، "زیادت ثقہ" اور "شاذ" کا کس طرح پتا لگنا ہے؟ اگر ایک ثقہ راوی زیادت بیان کرتا ہے، جو کہ باقی ثقہ راویوں کے خلاف ہے تو اسے ثقہ کی زیادت سمجھ کر قبول کریں گے یا باقی ثقہ راویوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاذ قرار دے کر رد میں گے

جواب: شاذ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں

۱۔ ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق یعنی زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔

۲۔ اپنے جیسے تعداد میں زیادہ ثقہ راویوں یعنی ثقثات کی مخالفت کرے۔

جبکہ زیادہ ثقثات میں ایک ثقہ راوی مخالفت نہیں کرتا ہے بلکہ اضافہ کرتا ہے۔

پس بعض اہل علم کے نزدیک زیادت ثقثات اور شذوذ کے مابین فرق یہ ہے کہ اگر تو ثقہ راوی کا اضافہ اصل حدیث کے مخالفت ہو تو روایت شاذ ہے اور غیر مقبول ہے اور اگر تو راوی کا اضافہ اصل حدیث کے مخالفت نہ ہو تو زیادت ثقثات ہے اور قابل قبول ہے۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک روایت میں منافق کے تین اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اب ایک اور ثقہ راوی ایک دوسری روایت میں منافق کے چوتھے وصف کا بھی اضافہ کر دیتا ہے تو یہ چوتھا وصف بیان کرنا پہلی روایت کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اس پر اضافہ ہے۔

زیادت ثقثات اور شذوذ میں ایک دوسرا فرق جو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کے علاوہ ہے۔ اس موقف کے مطابق اگر تو

۱۔ اضافہ بیان کرنے والی روایت کے راویوں کی تعداد اصل روایت کے برابر ہے تو زیادت ثقثات ہے اور قبول ہے

۲۔ یا اضافہ بیان کرنے والی روایت کے راویوں کی تعداد تقریباً اصل روایت کے برابر ہے تو بھی زیادت ثقثات ہے اور قابل قبول ہے

۳۔ یا اضافہ بیان کرنے والی روایت کے راوی اصل روایت کے راویوں کی نسبت زیادہ ثقہ ہوں

اور اگر ایسا نہ ہو تو شاذ ہے۔

تفصیل کے لیے عربی لنک دیکھیں :

[ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقہ؟ - {فتاویٰ کل السلفین}](#)